



Attempt ..... questions

1 Find the area of the figure.





دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجئے۔ 1

2 Define Rectangular region.

مستطیلی علاقہ کی تعریف کیجئے۔ 2



3 Find the area.

رقبہ معلوم کیجئے۔ 3



4 Find area of figure.

شکل کا رقبہ معلوم کریں۔ 4



5 The three medians of a triangle pass through one point. What is called that point?

مثلث کے تینوں وسطیوں سے گزرتے ہیں۔ اس نقطہ کو کیا کہتے ہیں؟ 5

6 Construct a right angled isosceles triangle whose hypotenuse is 4.8cm long.

ایک قائمہ الزاویہ مساوی الساقین مثلث بنائیں جس کے وتر کی لمبائی 4.8 سم ہے۔ 6

7 Construct a triangle ABC:

مثلث ABC بنائیے جس میں 7

mAB=5.3cm, mBC=4.5cm and mCA=5.6cm

mAB=5.3cm, mBC=4.5cm, mCA=5.6cm

8 Define Incenter of a Triangle.

مثلث کے اندرونی مرکز کی تعریف کریں۔ 8

Attempt ..... questions

1 Prove that triangles on the same base and of the same (i.e. equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجئے کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔ 1

2 Construct the triangle ABC. Draw the bisector of its angles and verify their concurrency

مثلث ABC بنائیے، اس کے زاویوں کے ناصف کھینچئے اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق بھی کیجئے۔ 2

mAB=4.2cm, mBC=6cm, mCA=5.2cm

mAB=4.2cm, mBC=6cm, mCA=5.2cm